

صَلَّى
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

مُخْتَصَرًا صحیح نماز نبوی

تہجیر تحریر سے سلا لکھو



مکتبہ اسلامیہ

محدث العصر حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ

کتاب
مختصاً
صحیح نماز نبوی

تالیف
محمدت العصر حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر -----
اشاعت ----- 2015ء

ملنے کا پتا

مکتبہ اسلامیہ

لاہور ہادیہ حلیمہ سینٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور
042-37244973 - 37232369

فیصل آباد بیسمنٹ سمت بینک بالمقابل شیل پٹرول پمپ کوتوالی روڈ، فیصل آباد
041-2631204 - 2641204

☎ 0300-8661763

📌 /maktabaislamia1

🌐 www.maktabaislamiapk.com

✉ maktabaislamiapk@gmail.com

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں



فہرست

4	حرفِ اول
5	وضو کا طریقہ
9	صحیح نمازِ نبوی (تکبیرِ تحریمہ سے سلام تک)
31	دعاے قنوت
32	نماز کے بعد اذکار
35	نمازِ جنازہ پڑھنے کا صحیح اور مدلل طریقہ

تنبیہ: مردوں اور عورتوں کے طریقہ نماز میں کوئی فرق
قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

حرفِ اوّل

اقرارِ توحید کے بعد نماز اسلام کا دوسرا اور اہم رکن ہے۔ کتاب و سنت میں جہاں اس کی پابندی پر زور دیا گیا ہے وہاں نبی کریم ﷺ کا فرمان: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُو نَبِيِّ أَصْلَبِي» اس کی ادائیگی میں ”طریقہ نبوی“ کو لازم قرار دیتا ہے۔

زیر نظر کتاب ”مختصر صحیح نماز نبوی“ اسی اہمیت کے پیش نظر لکھی گئی ہے۔ جس میں استاذ محترم حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اور حسن لذاتہ احادیث کی رو سے بڑے احسن انداز میں طریقہ نماز کو بیان کیا ہے، نیز کئی ایک مقامات پر آثارِ سلف صالحین سے مسائل کی وضاحت اس پر طرہ ہے۔

مذکورہ کتاب اگرچہ مختصر ہے مگر جامعیت و افادیت کے لحاظ سے ممتاز حیثیت کی حامل ہے۔

استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خواہش تھی کہ مختصر نماز نبوی کے بعد اس موضوع پر ایک مفصل کتاب لکھی جائے لیکن زندگی نے مزید وفانہ کی اور اللہ رب العزت سے جا ملے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ راقم الحروف شیخ محترم رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے منصوبوں کے ساتھ ساتھ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے بھی پُر عزم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق و ہمت دے اور محدث العصر رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین

حافظ ندیم ظہیر

مدیر ماہنامہ اشاعت الحدیث حضور، انک
(طبع جدید: ۲۹/۲/۲۰۱۵ء) (۲۰۰۶/۹/۲۳ء)

وضو کا طریقہ

1 وضو کے شروع میں ”بِسْمِ اللّٰهِ“ پڑھیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ»^①

”جو شخص وضو (کے شروع) میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں ہے۔“

آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا:

«تَوَضَّؤُوا بِسْمِ اللّٰهِ»^②

”وضو کرو: بسم اللہ۔“

2 وضو (پاک) پانی سے کریں۔^③

3 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَوْ لَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ

بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»

① ابن ماجہ: ۳۹۷ وسندہ حسن، ورواہ الحاکم فی المستدرک: ۱/۱۴۷

② النسائی: ۱/۶۱۱ ح ۷۸ وسندہ صحیح، وابن خزیمہ فی صحیحہ: ۱/۷۴

ح ۱۴۴ وابن حبان فی صحیحہ (الاحسان: ۶۵۴۴/۶۵۱۰) ③ ارشاد باری تعالیٰ

ہے: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَسَّبُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ ”پس اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم

کر لو“ (النساء: ۴۳، المائدة: ۶) سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گرم پانی سے وضو کرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۱/۲۵۰ ح ۲۵۶ وسندہ صحیح) لہذا معلوم ہوا کہ گرم پانی

سے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ **تنبیہ:** نیذ، شربت اور دودھ وغیرہ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔

”اگر مجھے اپنی امت کے لوگوں کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انھیں

ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔“^①

آپ ﷺ نے رات کو اٹھ کر مسواک کی اور وضو کیا۔^②

پہلے اپنی دونوں ہتھیلیاں تین دفعہ دھوئیں۔^③

پھر تین دفعہ کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں۔^④

پھر تین دفعہ اپنا چہرہ دھوئیں۔^⑤

پھر تین دفعہ اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئیں۔^⑥

پھر (پورے) سر کا مسح کریں۔^⑦ اپنے دونوں ہاتھوں سے مسح کریں، سر

کے شروع حصے سے ابتدا کر کے گردن کے پچھلے حصے تک لے جائیں اور وہاں

سے واپس شروع والے حصے تک لے آئیں۔^⑧



① البخاری: ۸۸۷ و مسلم: ۲۵۲ ② مسلم: ۲۵۶ ③ البخاری: ۱۵۹ و مسلم:

۲۲۶ ☆ میمون تابعی رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے تو (پانی پہنچانے کے لیے) اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱/۳۹ ح ۴۲۵ و سندہ صحیح) استنجا کے لئے جاتے

ہوئے اذکار والی انگوٹھی کا اتارنا ثابت نہیں، اس سلسلے میں مروی حدیث ابن جریج کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ دیکھئے سنن ابی داؤد (۱۹) بتحقیقی ④ البخاری: ۱۵۹؛ و مسلم:

۲۲۶ / بہتر یہی ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں، جیسا کہ صحیح بخاری (۱۹۱) و صحیح مسلم (۲۳۵) سے ثابت ہے۔ تاہم اگر کلی علیحدہ اور ناک میں

پانی علیحدہ ڈالیں تو بھی جائز ہے۔ دیکھئے التاريخ الكبير لابن ابی خيثمة ص ۵۸۸ ح ۱۴۱۰ و سندہ حسن ⑤ البخاری: ۱۵۹ و مسلم: ۲۲۶ ⑥ البخاری: ۱۵۹ و مسلم:

۲۲۶ اگر با وضو ہو کر سر پر عمامہ باندھا ہو تو دوبارہ وضو کرنے کی صورت میں اس پر مسح جائز ہے، بشرطیکہ اسے کھولا نہ ہو۔ دیکھئے صحیح البخاری (۲۰۵) سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ عمامے پر مسح کرتے

تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱/۲۲ ح ۲۲۲ و سندہ حسن) سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے ٹوپی پر مسح کیا۔ (التاريخ الكبير للبخاری: ۱/۴۲۸ و سندہ صحیح)

⑦ البخاری: ۱۵۹ و مسلم: ۲۲۶ ⑧ البخاری: ۱۸۵ و مسلم: ۲۳۵.

سر کا مسح ایک بار کریں۔^①

پھر دونوں کانوں کے اندر اور باہر کا ایک دفعہ مسح کریں۔^②

پھر اپنے دونوں پاؤں، ٹخنوں تک تین تین بار دھوئیں۔^③

وضو کے دوران میں (ہاتھوں اور پاؤں کی) انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے۔^④

داڑھی کا خلال بھی کرنا چاہیے۔^⑤

تنبیہ: وضو کے بعد شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارنا بھی ثابت ہے۔ (سنن ابی

داؤد: ۱۶۶ وهو حدیث حسن لذاتہ) یہ شک اور وسوسے کو زائل کرنے کا بہترین

ذریعہ ہے۔ دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ (۱/۱۶۷)

⑫ وضو کے بعد درج ذیل دعائیں پڑھیں:

① أبو داؤد: ۱۱۱ وسندہ صحیح بعض روایتوں میں سر کے تین دفعہ مسح کا ذکر بھی آیا ہے۔

مثلاً دیکھئے سنن ابی داؤد: ۱۱۰، ۱۰۷، وهو حدیث حسن ② سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب

وضو کرتے تو شہادت والی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے (اور ان کے ساتھ دونوں کانوں

کے) اندرونی حصوں کا مسح کرتے اور انگوٹھوں کے ساتھ باہر والے حصے پر مسح کرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۱/۱۸ ح ۱۷۳ وسندہ صحیح) تنبیہ: سر اور کانوں کے

مسح کے بعد، الٹے ہاتھوں کے ساتھ گردن کے مسح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ③ البخاری: ۱۵۹

ومسلم: ۲۲۶ اگر پاؤں میں چڑے کے موزے ہوں، جورین مجلدین اور جورین منعلین ہوں

یا جرابیں ہوں تو ان پر مسح جائز ہے۔ جرابوں پر مسح سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت

ہے۔ دیکھئے الأوسط لابن المنذر (۱/۴۶۲ وسندہ صحیح) اور مصنف ابن

ابی شیبہ (۱/۱۸۹، ۱۸۹) تنبیہ: تشبیک (انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا) بذات خود جائز ہے

لیکن وضو کر کے مسجد جاتے ہوئے تشبیک منع ہے۔ دیکھئے سنن ابی داؤد: ۵۶۲ وسند

حسن ④ أبو داؤد: ۱۴۲ وسندہ حسن [الترمذی: ۳۹ وقال: "هذا حدیث

حسن غریب"] ⑤ الترمذی: ۳۱ وقال: "هذا حدیث حسن صحیح" اس

کی سند حسن ہے۔ ☆ جس شخص کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو، اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ دیکھئے

السنن الكبرى للبيهقي (۲/۲۴۲ وسندہ حسن)

* أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ①
 * سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
 أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ②

13 وضو کے بعض نواقض (وضو توڑنے والے عوامل) درج ذیل ہیں:

پیشاب، پاخانہ، نیند (سنن الترمذی: ۵۳۵، ۳ وقال: حسن صحیح، وهو حدیث حسن)
 مذی (صحیح بخاری: ۱۳۲ و صحیح مسلم: ۳۰۳) شرمگاہ کو ہاتھ لگانا (سنن ابی داؤد:
 ۱۸۱ و صحیح الترمذی: ۸۲ و حدیث صحیح) اونٹ کا گوشت کھانا (صحیح مسلم: ۳۶۰)
 اور (سبیلین سے) ہوا (رتخ) کا خارج ہونا (ابوداؤد: ۲۰۵ و سندہ حسن)

① مسلم: ب ۲۳۴/۱۷ ☆ تنبیہ: سنن الترمذی (۵۵) کی ضعیف روایت میں
 ”اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين“ کا اضافہ ہے لیکن یہ سند انقطاع کی وجہ سے
 ضعیف ہے۔ ابوداؤد، الخولانی اور ابوعثمان (سعید بن ہانی رمسند الفاروق لابن کثیر ۱/۱۱۱) دونوں نے
 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کچھ بھی نہیں سنا۔ دیکھئے میری کتاب ”أنوار الصحیفة فی الأحادیث
 الضعیفة“ (ت: ۵۵) وضو کے بعد آسمان کی طرف چہرہ یا انگلی اٹھا کر اشارہ کرنے کا صحیح حدیث میں
 کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد والی روایت (۱۷۰) ابن عم زہرہ کے مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف
 ہے، نیز وضو کے دوران میں دعائیں پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ ② السنن الکبریٰ للامام
 النسائی: ح ۹۹۰۹، وعمل الیوم واللیلۃ: ح ۸۰ و سندہ صحیح، اسے حاکم اور
 ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ (مستدرک الحاکم: ۱/۵۶۶ ح ۲۰۷۲) حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:
 ”هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ“ (نتائج الافکار: ۱/۲۳۵) تنبیہ: غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے کہ
 پہلے استنجاء کریں، پھر (سر کے مسح اور پاؤں دھونے کے علاوہ) مسنون وضو کریں اور پھر سارے جسم پر اس
 طرح پانی بہائیں کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے اور آخر میں پاؤں دھولیں۔ تنبیہ: نماز ہو، وضو یا غسل ہو
 یا کوئی سی عبادت، نیت کرنا ضروری ہے کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دیکھئے صحیح
 بخاری (۱) و صحیح مسلم (۱۹۰۷) یاد رہے کہ زبان سے نماز یا وضو کی نیت ثابت نہیں ہے۔

صحیح نمازِ نبوی

① رسول اللہ ﷺ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو قبلہ (کعبہ) کی طرف

رخ کرتے، رفع الیدین کرتے اور فرماتے: ”اللہ اکبر۔“^①

اور آپ نے فرمایا: ”جب تو نماز کے لئے کھڑا ہو تو تکبیر کہہ۔“^②

② آپ ﷺ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔^③ یہ بھی ثابت

ہے کہ آپ ﷺ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے۔^④

لہذا دونوں طرح جائز ہے لیکن زیادہ حدیثوں میں کندھوں تک رفع الیدین کرنے کا ثبوت ہے۔ یاد رہے کہ رفع الیدین کرتے وقت ہاتھوں کے ساتھ کانوں کو پکڑنا یا چھونا کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ مردوں کا ہمیشہ کانوں تک اور عورتوں

① ابن ماجہ: ۸۰۳ و سندہ صحیح، و صححہ الترمذی: ۳۰۴ و ابن حبان،

الاحسان: ۱۸۶۲ و ابن خزیمہ: ۱۵۸۷ کے راوی عبدالحمید بن جعفر جمہور محدثین کے نزدیک

ثقف و صحیح الحدیث ہیں، دیکھئے نصب الراية (۱/۳۴۴) ان پر جرح مردود ہے۔ محمد بن عمرو بن عطاء ثقہ

ہیں (تقریب التہذیب: ۶۱۸۷) محمد بن عمرو بن عطاء کا ابو حمید الساعدی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی

مجلس میں شامل ہونا ثابت ہے، دیکھئے صحیح البخاری (۸۲۸) لہذا یہ روایت متصل ہے۔

البحر الزخار (۲/۱۶۸ ح ۵۳۶) میں اس کا ایک شاہد بھی ہے جس کے بارے میں ابن

الملقن نے کہا: ”صحیح علی شرط مسلم“ (البدر المنیر ۳/۴۵۶) ② البخاری:

۷۵۷، مسلم: ۳۹۷/۴۵ ③ البخاری: ۷۳۶، مسلم: ۳۹۰ ④ مسلم: ۲۶،

۳۹۱/۲۵ ☆ حالت نماز میں نظر جھکالیں۔ دیکھئے نصب الراية (۱/۴۱۶) اور نور

العینین (ص ۱۹۵، ۱۹۶)

کا کندھوں تک رفع یدین کرنے کی تخصیص کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

③ آپ ﷺ (انگلیاں) پھیلا کر رفع یدین کرتے تھے۔^①

④ آپ ﷺ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر، سینے پر رکھتے تھے۔^②

لوگوں کو (نبی ﷺ کی طرف سے) یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں۔^③

ذراع: کہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے۔ (القاموس

الوحید ص ۵۶۸) سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پھر آپ ﷺ نے اپنا

دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی، کلائی اور ساعد پر رکھا۔^④

ساعد: کہنی سے ہتھیلی تک کا حصہ (ہے) دیکھئے: القاموس الوحید (ص ۷۹) اگر ہاتھ

پوری ذراع (ہتھیلی، کلائی اور ہتھیلی سے کہنی تک) پر رکھا جائے تو خود بخود

ناف سے اوپر اور سینے پر آجاتا ہے۔

⑤ رسول اللہ ﷺ تکبیر (تحریمہ) اور قراءت کے درمیان درج ذیل دعا

(سر اٰلِ عِیْنِ بَغِیْرِ جِهْرِ كَے) پڑھتے تھے:

«اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا

بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي

① ابو داود: ۷۵۳ وسنده صحیح، وصححه ابن خزيمة: ۴۵۹ وابن حبان،

الاحسان: ۱۷۷۴ والحاكم: ۱/۲۳۴ ووافقه الذهبي ② أحمد فی مسنده

۵/۲۲۶ ح ۲۲۳۱۳ وسنده حسن، وعنه ابن الجوزی فی التحقيق: ۱/۲۸۳

ح ۴۷۷ دوسرانسخ: ۱/۳۳۸ ح ۴۳۴ ③ البخاری: ۷۴۰ وموطأ إمام مالك:

۱/۱۵۹ ح ۳۷۷ ④ ابو داود: ۷۲۷ وسنده صحیح، النسائی: ۸۹۰، وصححه

ابن خزيمة: ۴۸۰ وابن حبان: ۱۸۵۷ تنبيه: مردوں کا ناف سے نیچے اور صرف عورتوں کا

سینے پر ہاتھ باندھنا (یہ تخصیص) کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، نیز دیکھئے ماہنامہ الحدیث: ۱۳ ص ۱۹

مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْاَبْيَضُ مِنَ
الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ
وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ»^①

”اے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان ایسی دُوری بنا
دے جیسی مشرق و مغرب کے درمیان دُوری ہے۔ اے اللہ! مجھے
خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے
صاف ہوتا ہے۔ اے اللہ! میری خطاؤں کو پانی، برف اور اولوں
کے ساتھ دھو ڈال (معاف کر دے)“

درج ذیل دعا پڑھنا بھی آپ ﷺ سے ثابت ہے:

«سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ»^②

”اے اللہ! تو پاک ہے، اور تیری تعریف کے ساتھ، تیرا نام
برکتوں والا ہے اور تیری شان بلند ہے۔ تیرے سوا دوسرا کوئی معبود
برحق نہیں ہے۔“

ثابت شدہ دعاؤں میں سے جو دعا بھی پڑھ لی جائے بہتر ہے۔

اس کے بعد آپ ﷺ درج ذیل دعا پڑھتے تھے:

① البخاری: ۷۴۴، مسلم: ۵۹۸/۱۴۷. ② أبو داود: ۷۷۵ وسندہ حسن،
النسائی: ۹۰۰، ۹۰۱، ابن ماجہ: ۸۰۴، الترمذی: ۲۴۲، وأعل بما لا یقدح
وصححه الحاکم: ۲۳۵/۱ ووافقه الذہبی۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّبِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ

الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ^①

7 پھر رسول اللہ ﷺ «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ» پڑھتے تھے۔^②

بسم اللہ سرّاً یا جہراً پڑھنا دونوں طرح جائز ہے لیکن کثرت دلائل کی رو سے عام طور پر سرّاً پڑھنا بہتر ہے۔^③ اس مسئلے میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔

8 پھر آپ ﷺ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔^④

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَالضَّالِّينَ.



① ابوداؤد: ۷۷۵ وسندہ حسن «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» پڑھنا بھی جائز

ہے۔ دیکھئے صحیح بخاری (۶۱۱۵) صحیح مسلم (۲۶۱۰)، دارالسلام:

(۶۶۴۶) اور کتاب الام للامام الشافعی (۱۰۷/۱) ② النسائی: ۹۰۶، وسندہ

صحیح، وصححه ابن خزيمة: ۴۹۹ وابن حبان: الاحسان: ۱۷۹۴، و

الحاکم علی شرط الشيخین: ۱/۲۳۲ ووافقه الذهبی۔ ☆ تَنْبِيْهِ: اس روایت کے

راوی سعید بن ابی ہلال نے یہ حدیث اختلاف سے پہلے بیان کی ہے، خالد بن یزید کی سعید بن ابی ہلال

سے روایت صحیح بخاری (۱۳۶) و صحیح مسلم (۱۹۷۷/۴۲) میں موجود ہے۔

③ ”جہراً“ کے جواز کے لئے دیکھئے النسائی: ۹۰۶، وسندہ صحیح۔ ”سرّاً“ کے

جواز کے لئے دیکھئے صحیح ابن خزيمة: ۴۹۵ وسندہ حسن، صحیح ابن

حبان، الاحسان: ۱۷۹۶، وسندہ صحیح. ④ النسائی: ۹۰۶، وسندہ

صحیح دیکھئے حاشیہ سابقہ: ۳۔

سورۃ فاتحہ آپ ﷺ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے اور ہر آیت پر وقف کرتے تھے۔^①
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

”جو شخص سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی“ (صحیح البخاری: ۷۶۱)

اور فرماتے: «كُلُّ صَلَوةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ»

”ہر نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، ناقص ہے۔“

(ابن ماجہ: ۸۳۱ و سندہ حسن)

پھر آپ ﷺ آمین کہتے تھے۔^② سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اپنا

دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، پھر جب آپ نے ولا الضالین (جہراً) کہی

تو آمین (جہراً) کہی۔^③ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہری نماز میں

(امام اور مقتدیوں کو) آمین جہراً کہنی چاہیے۔

☆ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت میں آیا ہے: ”وَحَفْصٌ بِهَا

صَوْتُهُ“ اور آپ ﷺ نے اس (آمین) کے ساتھ اپنی آواز پست رکھی۔^④

① ابو داؤد: ۴۰۰۱، الترمذی: ۲۹۲۷ وقال: ”غریب“ وصححه الحاكم على

شرط الشيخين (۲/۲۳۲) ووافقہ الذہبی وسندہ ضعیف وله شاهد قوى فى

مسند احمد: ۶/۲۸۸ ح ۲۷۰۰۳ وسندہ حسن والحديث به حسن

② النسائی: ۹۰۶، وسندہ صحیح، نیز دیکھئے فقرہ: ۷ حاشیہ: ۳ ③ ابن حبان

الاحسان: ۱۸۰۲، وسندہ صحیح ☆ ایک روایت میں آیا ہے: ”فجهر بآمین“ پس آپ ﷺ

نے آمین بالجہر کہی۔ ابو داؤد: ۹۳۳ وسندہ حسن ④ احمد: ۴/۳۱۶ ح ۱۹۰۴۸،

ورجاله ثقات وهو معلول وأعله البخاری وغيره۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سری نماز میں آمین سرّاً کہنی چاہیے، سری نمازوں میں آمین سرّاً کہنے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔

10 پھر آپ ﷺ سورۃ سے پہلے «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ» پڑھتے۔^①

11 آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر سورۃ فاتحہ پڑھو اور جو اللہ چاہے پڑھو۔“^②

نبی ﷺ پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے تھے۔^③

اور آخری دو رکعتوں میں (صرف) سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔^④ آپ ﷺ

قراءت کے بعد رکوع سے پہلے سکتے کرتے تھے۔^⑤

12 پھر آپ ﷺ رکوع کے لئے تکبیر (اللہ اکبر) کہتے۔^⑥

13 آپ ﷺ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔^⑦



① مسلم: ۴۰۰/۵۳ قال رسول اللہ ﷺ: «أنزلت علي أنفا سورة، فقرأ:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ إِنَّا ○ اعطینک الکثیر ○ فصل لربک و انحر ○ إن شاکتک هو

الکثیر ○» سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے ایک دفعہ نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت سے پہلے

بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی تو مہاجرین و انصار سخت ناراض ہوئے، پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ سورت

سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ رواہ الشافعی (الام: ۱/۱۰۸) و صححہ

الحاکم علی شرط مسلم (۲/۲۳۳) و وافقہ الذہبی۔ اس کی سند حسن ہے۔

② ابو داود: ۸۵۹، وسندہ حسن ③ البخاری: ۷۶۲ و مسلم: ۴۵۱ ④ البخاری: ۷۷۶، مسلم: ۱۵۵/۴۵۱۔ آخری دو رکعتوں میں کوئی سورت ملانا بھی جائز ہے۔ دیکھئے

صحیح مسلم (۴۵۲) اور یہی کتاب ص ۲۴ فقرہ: ۳۸ حاشیہ: ۶ ⑤ ابو داود: ۷۷۷،

۷۷۸، ابن ماجہ: ۸۴۵ و هو حدیث صحیح / حسن بصری مدلس ہیں (طبقات المدلسین بتحقیقی: ۲/۴۰) لیکن ان کی سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہا سے حدیث صحیح ہوتی ہے، اگرچہ

تصریح سماع نہ بھی ہو کیونکہ وہ سمرہ رضی اللہ عنہا کی کتاب سے روایت کرتے تھے، نیز دیکھئے نیل المقصود

فی التعلیق علی سنن ابی داود: ۳۵۴ تنبیہ: اگر سورۃ فاتحہ رگئی ہو تو اسے سکتے میں پڑھ

لیں۔ دیکھئے نصر الباری فی تحقیق جزء القراءة للبخاری (۲۷۴، ۲۷۵) ⑥ البخاری: ۷۸۹، مسلم: ۳۹۲/۲۸ ⑦ البخاری: ۷۳۸، مسلم: ۳۹۰/۲۲

آپ ﷺ (عند الرکوع وبعده) رفع یدین کرتے، پھر (اس کے بعد) تکبیر کہتے۔^①

اگر پہلے تکبیر اور بعد میں رفع یدین کر لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ تکبیر کہتے تو رفع یدین کرتے۔^②

⑭ آپ ﷺ جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنے، مضبوطی سے پکڑتے، پھر اپنی کمر جھکاتے (اور برابر کرتے)^③ آپ ﷺ کا سر نہ تو

(پیٹھ سے) اونچا ہوتا اور نہ نیچا (بلکہ برابر ہوتا تھا)^④ آپ ﷺ اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے تھے، پھر اعتدال (سے رکوع)

کرتے۔ نہ تو سر (بہت) جھکاتے اور نہ اسے (بہت) بلند کرتے^⑤ یعنی آپ ﷺ کا سر مبارک آپ کی پیٹھ کی سیدھ میں بالکل برابر ہوتا تھا۔

⑮ آپ ﷺ نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے گویا آپ نے انھیں پکڑ رکھا ہے اور دونوں ہاتھ کمان کی ڈوری کی طرح تان

کر اپنے پہلوؤں سے دور رکھے۔^⑥

⑯ آپ ﷺ رکوع میں «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» کہتے (رہتے) تھے۔^⑦

① مسلم: ۳۹۰/۲۲. ② ابو داؤد: ۷۳۰ وسندہ صحیح، نیز دیکھئے فقرہ: ۱ حاشیہ: ۱

③ البخاری: ۸۲۸ ④ مسلم: ۴۹۸/۲۴۰ ⑤ ابو داؤد: ۷۳۰ وسندہ صحیح

⑥ ابو داؤد: ۷۳۴، وسندہ حسن، وقال الترمذی (۲۶۰): "حدیث حسن

صحیح" وصححه ابن خزيمة: ۶۸۹ وابن حبان، الاحسان: ۱۸۶۸ ☆ **تنبیہ:**

فلیح بن سلیمان صحیحین کے راوی ہیں اور حسن الحدیث ہیں، جمہور محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، لہذا یہ

روایت حسن لذاتہ ہے، فلیح مذکور پر جرح مردود ہے۔ والحمد لله ⑦ مسلم: ۷۷۲، ولفظہ:

"ثم رقع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوًا من قيامه"

آپ ﷺ اس کا حکم دیتے تھے کہ یہ (دعا) رکوع میں پڑھیں۔^①
 آپ ﷺ سے رکوع میں یہ دعائیں بھی ثابت ہیں:

✽ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ
 اغْفِرْ لِي^②

یہ دعا آپ کثرت سے پڑھتے تھے۔

✽ سُبُوْحُ قُدُوْسٍ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ^③

✽ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ^④

✽ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسَلْتُ

خَشَعَ لَكَ سَعْيِي وَبَصْرِي وَ مِجْيِي وَعَظْمِي

وَعَصْبِي^⑤

ان دعاؤں میں سے کوئی سی دعا پڑھی جاسکتی ہے، ان دعاؤں کا ایک ہی
 رکوع یا سجدے میں جمع کرنا اور اکٹھا پڑھنا کسی صریح دلیل سے ثابت نہیں ہے۔

تاہم حالت تشہد «ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو»

(البخاری: ۸۳۵، واللفظ له، مسلم: ۴۰۲) کی عام دلیل سے ان دعاؤں کا

جمع کرنا بھی جائز ہے۔ ☆



① ابوداؤد: ۸۶۹ وسندہ صحیح، ابن ماجہ: ۸۸۷ وصححه ابن خزيمة:

۶۰۱، ۶۷۰ وابن حبان، الاحسان ۱۸۹۵ والحاكم: ۱/۲۲۵، ۲/۴۷۷

واختلف قول الذهبي فيه، يمون بن مهران اور زہری (تابعی) فرماتے ہیں: رکوع وسجود میں تین

تسبیحات سے کم نہیں پڑھنی چاہئیں (ابن ابی شیبہ فی المصنف ۱/۲۵۰ ح ۲۵۷۱ وسندہ حسن)

② البخاری: ۷۹۴، ۸۱۷، مسلم: ۴۸۴ ③ مسلم: ۴۸۷ ④ مسلم: ۴۸۵

⑤ مسلم: ۷۷۱ ☆ نیز دیکھئے فقرہ: ۲۵

17) ایک شخص نماز صحیح نہیں پڑھ رہا تھا، آپ ﷺ نے اسے نماز کا طریقہ سکھانے کے لئے فرمایا:

”جب تو نماز کے لئے کھڑا ہو تو پورا وضو کر، پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر (اللہ اکبر) کہہ، پھر قرآن سے جو میسر ہو (سورہ فاتحہ) پڑھ، پھر اطمینان لے رکوع کر، پھر اٹھ کر (اطمینان سے) برابر کھڑا ہو جا، پھر اطمینان سے سجدہ کر، پھر اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ جا، پھر اطمینان سے (دوسرا) سجدہ کر، پھر (دوسرے سجدے سے) اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ جا، پھر اپنی ساری نماز (کی ساری رکعتوں) میں اسی طرح کر۔^①

18) جب آپ ﷺ رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ کہتے تھے۔^② رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہنا بھی صحیح اور ثابت ہے۔^③

رکوع کے بعد درج ذیل دعائیں بھی ثابت ہیں:

* اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ^④ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ

① البخاری: ۶۲۵۱، ② البخاری: ۷۳۵، راجح یہی ہے کہ امام مقتدی اور مفرد سب سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ پڑھیں۔ (سنن الدارقطنی ۱/۳۳۹، ۳۴۰ ح ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، وسندہ حسن) محمد بن سیرین اس کے قائل تھے کہ مقتدی بھی سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے۔ دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ (۱/۲۵۳ ح ۲۶۰۰ وسندہ صحیح) ③ البخاری: ۷۸۹، بعض اوقات رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ جہراً کہنا بھی جائز ہے، عبدالرحمن بن ہرمز الاعرج سے روایت ہے: سمعت أبا هريرة يرفع صوته باللهم ربنا ولك الحمد” میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اونچی آواز کے ساتھ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱/۲۴۸ ح ۲۵۵۶ وسندہ صحیح) ④ البخاری: ۷۹۶

وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ① أَهْلَ الثَّنَاءِ
وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَ وَلَا مُعْطِيَ
لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ②
* رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا
مُبَارَكًا فِيهِ ③

19] رکوع کے بعد قیام میں ہاتھ باندھنے چاہئیں یا نہیں، اس مسئلے میں
صراحت سے کچھ بھی ثابت نہیں، لہذا دونوں طرح عمل جائز ہے مگر بہتر
یہی ہے کہ بعد الرکوع ہاتھ نہ باندھے جائیں۔ ④

20] پھر آپ ﷺ تکبیر کہہ کر (یا کہتے ہوئے) سجدے کے لئے جھکتے۔ ⑤
21] آپ ﷺ نے فرمایا: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ
الْبَعِيرُ وَلِيَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكُوبَتِهِ» «جب تم میں سے کوئی سجدہ
کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے (بلکہ) اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں
سے پہلے (زمین پر) رکھے۔“ آپ ﷺ کا عمل بھی اسی کے مطابق تھا۔ ⑥

① مسلم: ۴۷۶ ② مسلم: ۴۷۸/۲۰۶ ③ البخاری: ۷۹۹ ④ امام احمد بن حنبل
سے پوچھا گیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہئیں یا چھوڑ دینے چاہئیں تو انھوں نے فرمایا:
أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله ”مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ اس میں کوئی تنگی نہیں
ہے۔“ (مسائل احمد: روایۃ صالح بن احمد بن احمد بن حنبل: ۵۶۱) ⑤ البخاری:
۸۰۳، مسلم: ۲۸/۲۳۹ ⑥ ابو داؤد: ۸۴۰ وسندہ صحیح علی شرط مسلم،
النسائی: ۱۰۹۲، وسندہ حسن/سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے گھٹنوں سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ
(زمین پر) رکھتے تھے (البخاری قبل حدیث: ۸۰۳) اور فرماتے کہ رسول اللہ ﷺ ایسا ہی
کرتے تھے (صحیح ابن خزیمہ: ۶۲۷ وسندہ حسن، وصححه الحاكم ==

22 آپ ﷺ سجدے میں ناک اور پیشانی، زمین پر (خوب) جما کر رکھتے، اپنے بازوؤں کو اپنے پہلو (بغلوں) سے دور کرتے اور دونوں ہتھیلیاں کندھوں کے برابر (زمین) پر رکھتے۔^① سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آپ ﷺ نے جب سجدہ کیا تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھا۔^②

23 سجدے میں آپ ﷺ اپنے دونوں بازوؤں کو اپنی بغلوں سے ہٹا کر رکھتے تھے۔^③ آپ ﷺ سجدے میں اپنے ہاتھ (زمین پر) رکھتے، نہ تو انھیں بچھاتے اور نہ (بہت) سمیٹتے، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے۔^④ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔^⑤ آپ ﷺ فرماتے تھے: ”سجدے میں اعتدال کرو، کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ۔“^⑥ نیز آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا

==> علی شرط مسلم: ۱/۲۲۶ ووافقہ الذہبی) جس روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ سجدہ میں جاتے وقت پہلے گھٹنے اور پھر ہاتھ رکھتے تھے (ابوداؤد: ۸۳۸ وغیرہ) شریک بن عبداللہ القاضی کی تالیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اس کے تمام شواہد بھی ضعیف ہیں، ابو قلابہ (تابعی) سجدہ کرتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے تھے اور حسن بصری (تابعی) پہلے ہاتھ لگاتے تھے (ابن ابی شیبہ: ۱/۲۶۳ ح ۲۷۰۸ و سندہ صحیح) محمد بن سیرین (تابعی) بھی پہلے گھٹنے لگاتے تھے (ابن ابی شیبہ: ۱/۲۶۳ ح ۲۷۰۹ و سندہ صحیح) دلائل کی رو سے راجح اور بہتر یہی ہے کہ پہلے ہاتھ اور پھر گھٹنے لگائے جائیں۔^① ابوداؤد: ۷۳۴، و سندہ حسن، نیز دیکھئے فقرہ: ۱۵ حاشیہ: ۵^② ابوداؤد: ۷۲۶ و سندہ صحیح، النسائی: ۸۹۰ و صححہ ابن خزیمہ: ۶۴۱ وابن حبان، الاحسان: ۱۸۵۷، نیز دیکھئے فقرہ: ۴ حاشیہ: ۴^③ ابوداؤد: ۷۳۰ و سندہ صحیح و دیکھئے فقرہ: ۱۴ حاشیہ: ۴^④ البخاری: ۸۲۸^⑤ البخاری: ۳۹۰، مسلم: ۴۹۵^⑥ البخاری: ۸۲۲، مسلم: ۴۹۳، اس حکم میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں، لہذا عورتوں کو بھی چاہئے کہ سجدے میں اپنے بازو نہ پھیلائیں۔

ہے: پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کے پنچے،^① آپ ﷺ فرماتے تھے: ”جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سات اطراف (اعضاء) اس کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، چہرہ، ہتھیلیاں، دو گھٹنے اور دو پاؤں۔“^② معلوم ہوا کہ سجدے میں ناک، پیشانی، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کا زمین پر لگانا ضروری ہے۔ ایک روایت میں ہے: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ» ”جو شخص (سجدے میں) اپنی ناک، زمین پر نہ رکھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔“^③

24] آپ ﷺ جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ آپ کے بازوؤں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔^④

25] سجدے میں بندہ اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں خوب دعا کرنی چاہیے^⑤ سجدے میں درج ذیل دعائیں پڑھنا ثابت ہیں:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى^⑥ * سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ،
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي^⑦ * سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ^⑧
* سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ^⑨ * اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
ذُنُوبِي كُلَّهَا دِقَّةً وَجَلَّةً وَأَوَّلَهُ وَأَخْرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ^⑩

① البخاری: ۸۱۲، مسلم: ۴۹۰، ② مسلم: ۴۹۱، ③ سنن الدارقطنی: ۳۴۸/۱ ح ۱۳۰۳ مرفوعاً وسندہ حسن ④ مسلم: ۴۹۶، یعنی نبی ﷺ اپنے سنے اور پیٹ کو زمین سے بلند رکھتے تھے، عورتوں کے لئے بھی یہی حکم ہے: «صَلُّوا كَمَا رَأَى يَتْمُونِي أَصَلِّي» ”نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو“ ⑤ مسلم: ۴۸۲، ⑥ مسلم: ۷۷۲، ⑦ البخاری: ۷۹۴، ۸۱۷، مسلم: ۴۸۴، ⑧ مسلم: ۴۸۷، ⑨ مسلم: ۴۸۵، ⑩ مسلم: ۴۸۳

﴿اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي
لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ﴾^①

26 ﴿آپ ﷺ سجدے کو جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔﴾^②

27 ﴿آپ ﷺ سجدے کی حالت میں اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں ملا دیتے
اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔﴾^③ اور آپ اپنے دونوں قدم کھڑے
رکھتے تھے۔^④

28 ﴿آپ ﷺ تکبیر (اللہ اکبر) کہہ کر سجدے سے اٹھتے۔﴾^⑤ آپ ﷺ اللہ
اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھاتے اور اپنا بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ
جاتے۔^⑥ آپ ﷺ سجدے سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے
تھے (بخاری: ۷۳۸، مسلم: ۳۹۰/۲۲) سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
فرماتے ہیں: نماز میں (نبی ﷺ کی) سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کر
کے بائیں پاؤں بچھا دیا جائے۔^⑦

29 ﴿آپ ﷺ سجدے سے اٹھ کر (جلسے میں) تھوڑی دیر بیٹھے رہتے۔﴾^⑧
حتیٰ کہ کوئی کہنے والا کہہ دیتا: ”آپ بھول گئے ہیں۔“^⑨

① مسلم: ۷۷۱ (جو دعایاں صحیح ثابت ہو جائے سجدے میں اس کا پڑھنا افضل ہے، رکوع اور
سجدے میں قرآن پڑھنا منع ہے۔ دیکھئے صحیح مسلم: ۴۷۹، ۴۸۰) ② البخاری:
۷۳۸ ③ البیہقی: ۱۱۶/۲ وسندہ صحیح وصححه ابن خزيمة: ۶۵۴
وابن حبان، الاحسان: ۱۹۳۰، والحاکم (۱/ ۲۲۸، ۲۲۹) علی شرط
الشیخین ووافقه الذہبی ④ مسلم: ۴۸۶، مع شرح النووی ⑤ البخاری:
۷۸۹، مسلم: ۳۹۲ ⑥ ابوداؤد: ۷۳۰ وسندہ صحیح ⑦ البخاری: ۸۲۷
⑧ البخاری: ۸۱۸ ⑨ البخاری: ۸۲۱، مسلم: ۴۷۲

30 آپ جلسے میں یہ دعا پڑھتے تھے: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي»^①

31 پھر آپ ﷺ تکبیر (اللہ اکبر) کہہ کر (دوسرا) سجدہ کرتے۔^②

3 آپ ﷺ سجدے میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔^③

4 آپ ﷺ دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے تھے۔^④

سجدے میں آپ ﷺ «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» پڑھتے تھے۔^⑤ دیگر

دعاؤں کے لئے دیکھئے فقرہ: ۲۵

32 پھر آپ ﷺ تکبیر (اللہ اکبر) کہہ کر (دوسرے) سجدے سے سر

① ابو داؤد: ۸۷۴ وهو حديث صحيح، النسائي: ۱۰۷۰، ۱۱۴۶، اس روایت

میں رجل من بنى عبس سے مراد: صلة بن زفر ہیں۔ دیکھئے مسند الطيالسی (۴۱۶)

ابوزمرہ مولیٰ الانصار سے مراد: طلحہ بن یزید ہیں۔ دیکھئے تحفة الاشراف (۵۸/۳ ح ۳۳۹۵)

و تقریب التہذیب (تحت رقم: ۸۰۶۳) جلسہ میں تشہد کی طرح اشارہ، جس روایت میں آیا

ہے (مسند احمد: ۳۱۷/۴ ح ۱۹۰۶۳) اس کی سند سفیان (الثوری) کی تالیس (عنعنہ)

کی وجہ سے ضعیف ہے، حافظ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”وأما المدلسون الذين هم ثقات

و عدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل الثوري والأعمش وأبي

إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقين۔۔۔“ مدلسین جو ثقہ و عادل ہیں ہم ان کی صرف انھی

روایات سے حجت پکڑتے ہیں جن میں انھوں نے سماع کی تصریح کی ہے۔ مثلاً (سفیان) ثوری، اعمش،

ابو اسحاق اور ان جیسے دوسرے صاحب تقویٰ (صاحب اتقان) ائمہ (صحیح ابن حبان، الاحسان مع تحقیق

شعب الارناؤوط ج ۱ ص ۱۶۱) سفیان الثوری کو حاکم نیشاپوری نے (مدلسین کے طبقہ) (ثالث میں ذکر

کیا ہے (دیکھئے معرفۃ علوم الحدیث ص ۱۰۶) مکحول تابعی رحمہ اللہ دو سجدوں کے درمیان ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي“ پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲ / ۵۳۴ ح

۸۸۳۸، دوسرا نسخہ ۳ / ۶۳۴ ح ۸۹۲۲ واللفظ له وسنده صحيح) نبی ﷺ نے ایک

آدمی کو نمازیں «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي» کی دعا سکھائی۔

(صحیح مسلم ۳۵ / ۲۶۹۷) ② البخاری: ۷۸۹، مسلم: ۸۲ / ۲۳۹

③ البخاری: ۸۷۳ ④ مسلم: ۱۲ / ۹۰۳، سجدہ کرتے وقت، سجدے سے سر اٹھاتے وقت

اور سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنا ثابت نہیں ہے۔ ⑤ مسلم: ۷۲۷

اٹھاتے ① سجدے سے اٹھتے وقت آپ ﷺ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ②

33) آپ ﷺ جب طاق (پہلی یا تیسری) رکعت میں دوسرے سجدے

سے سر اٹھاتے تو بیٹھ جاتے تھے۔ ③ دوسرے سجدے سے آپ ﷺ

جب اٹھتے تو بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی

جگہ پر آ جاتی۔ ④

34) ایک رکعت مکمل ہو گئی، اب اگر آپ ایک وتر پڑھ رہے ہیں تو پھر تشہد،

دروود اور دعائیں (جن کا ذکر آگے آرہا ہے) پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ ⑤

35) پھر آپ ﷺ زمین پر (دونوں ہاتھ رکھ کر) اعتماد کرتے ہوئے (دوسری

رکعت کے لئے) اٹھ کھڑے ہوتے۔ ⑥

36) رسول اللہ ﷺ جب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تو

«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» سے قراءت شروع کرتے وقت سکتے

نہ کرتے تھے۔ ⑦



① البخاری: ۷۸۹، مسلم: ۳۹۲/۲۸ ② البخاری: ۷۳۸، مسلم: ۳۹۰/۲۲

③ البخاری: ۸۲۳ ④ ابو داؤد: ۷۳۰ وسندہ صحیح، آپ ﷺ دوسرے سجدے کے

بعد بیٹھنے کا حکم دیتے تھے (صحیح البخاری: ۶۲۵۱) نیز دیکھئے فقرہ ۱۷، اس سنت صحیح کے

خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ ⑤ دیکھئے تشہد = فقرہ: ۴۱ درود = فقرہ: ۴۲ دعائیں = فقرہ: ۴۹،

۵۰، سلام = فقرہ: ۵۰، ۵۱، ایک رکعت پر اگر سلام پھیرا جائے تو تورک کرنا جائز ہے اور نہ کرنا بھی، مگر

بہتر یہی ہے کہ تورک کیا جائے ایک روایت میں ہے: ”حتیٰ إذا كانت السجدة التي فيها التسليم

آخر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه الأيسر“ ابو داؤد: ۷۳۰ وسندہ صحیح۔

⑥ البخاری: ۸۲۴ وابن خزيمة في صحيحه: ۶۸۷، ازرق بن قيس (ثقه/

التقريب: ۳۰۲) سے روایت ہے کہ میں نے (عبداللہ) بن عمر (رضی اللہ عنہما) کو دیکھا آپ نماز میں اپنے

دونوں ہاتھوں پر اعتماد کر کے کھڑے ہوئے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۹۵/۱ ح ۳۹۹۶

وسندہ صحیح) ⑦ مسلم: ۵۹۹، ابن خزيمة: ۱۶۰۳، ابن حبان: ۱۹۳۳۔

سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ذکر گزر چکا ہے۔^①
 ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾^② کی رو سے
 بسم اللہ سے پہلے «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» پڑھنا بھی
 جائز بلکہ بہتر ہے۔ رکعت اولیٰ میں جو تفصیل گزر چکی ہیں^③ حدیث:
 ”پھر ساری نماز میں اسی طرح کر“^④ کی رو سے دوسری رکعت بھی اسی
 طرح پڑھنی چاہیے۔

③7 دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد (تشہد کے لئے) بیٹھ جانے
 کے بعد آپ ﷺ اپنا دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے
 پر رکھتے تھے۔^⑤ آپ ﷺ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ترپن کا عدد
 (حلقہ) بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے^⑥ یعنی اشارہ
 کرتے ہوئے دعا کرتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ﷺ اپنے
 دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھتے اور انگوٹھے کو درمیانی انگلی سے
 ملاتے (حلقہ بناتے) اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔^⑦ لہذا
 دونوں طرح عمل جائز ہے۔

③8 آپ ﷺ اپنی دائیں کہنی کو دائیں ران پر رکھتے تھے۔^⑧ آپ ﷺ
 اپنی دونوں ذراعیں^⑨ اپنی رانوں پر رکھتے تھے۔^⑩

① دیکھئے فقرہ: ۷ وحاشیہ: ۳ ② النحل: ۹۸ ③ فقرہ: ۱ سے لے کر فقرہ: ۳۳ تک
 ④ البخاری: ۶۲۵۱، نیز دیکھئے فقرہ: ۱۷ ⑤ مسلم: ۱۱۲/۵۷۹ ⑥ مسلم: ۱۱۵/
 ۵۸۰ ⑦ مسلم: ۵۷۹/۱۱۳ ⑧ ابو داؤد: ۷۲۶، ۹۵۷ وسندہ صحیح،
 النسائی: ۱۲۶۶، ابن خزیمہ: ۷۱۳، ابن حبان، الاحسان: ۱۸۵۷ ⑨ زرار
 کے مفہوم کے لئے دیکھئے فقرہ: ۴ ⑩ النسائی: ۱۲۶۵ وھو حدیث صحیح بالشواہد

39) آپ ﷺ جب تشہد کے لئے بیٹھتے تو شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ ① آپ ﷺ انگلی اٹھا دیتے، اس کے ساتھ تشہد میں دعا کرتے تھے۔ ② آپ ﷺ شہادت والی انگلی کو تھوڑا سا جھکا دیتے تھے۔ ③ آپ ﷺ اپنی شہادت والی انگلی کو حرکت دیتے (ہلاتے) رہتے تھے۔ ④

40) آپ ﷺ اپنی تشہد کی انگلی کو قبلہ رخ کرتے اور اسی کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ ⑤ آپ ﷺ دو رکعتوں کے بعد والے (پہلے) تشہد، اور چار رکعتوں کے بعد والے (آخری) تشہد، دونوں تشہدوں میں یہ اشارہ کرتے تھے۔ ⑥

① مسلم: ۵۸۰/۱۱۵ ② ابن ماجہ: ۹۱۲، وسندہ صحیح، ابن حبان، الاحسان: ۱۹۴۲ ③ ابوداؤد: ۹۹۱ وسندہ حسن، ابن خزيمة: ۷۱۶، ابن حبان الاحسان: ۱۹۴۳ ④ النسائی: ۱۲۶۹ وسندہ صحیح، ابن خزيمة: ۷۱۴، ابن الجارود فی المنتقى: ۲۰۸، ابن حبان، الاحسان: ۱۸۵۷ ☆ تنبیہ: بعض لوگوں نے غلط فہمی کی وجہ سے یہ اعتراض کیا ہے کہ ”یحزّ کُھّا“ کا لفظ شاذ ہے کیونکہ اسے زائدہ بن قدامہ کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ: زائدہ بن قدامہ: نقۃ ثبت، صاحب سنۃ ہیں (التقریب: ۱۹۸۲) لہذا ان کی زیادت مقبول ہے اور دوسرے راویوں کا یہ لفظ ذکر نہ کرنا شذوذ کی دلیل نہیں کیونکہ عدم ذکر نفی ذکر کی دلیل نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ ”ولایحزّ کُھّا“ والی روایت (ابو داؤد: ۹۸۹، النسائی: ۱۲۷۱) محمد بن عجلان کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، دیکھئے میری کتاب ”انوار الصحیفة فی الأحادیث الضعیفة“ (ص ۲۸) محمد بن عجلان مدلس ہیں (طبقات المدلسین: ۳/۹۸ بتحقیقی/ الفتح المبین ص ۶۱، ۶۰) ⑤ النسائی: ۱۱۶۱، وسندہ صحیح، ابن خزيمة: ۷۱۹، ابن حبان، الاحسان: ۱۹۴۳ ☆ تنبیہ: یہ روایت اس متن کے بغیر صحیح مسلم: ۵۸۰/۱۱۶ میں مختصراً موجود ہے۔ ⑥ النسائی: ۱۱۶۲، وسندہ حسن ☆ تنبیہ: لالاہ پر انگلی اٹھانا اور الا اللہ پر رکھ دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ احادیث کے عموم سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شروع سے آخر تک، حلقہ بنا کر شہادت والی انگلی اٹھائی جائے، رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جو (تشہد میں) دو انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”أَجِدْ أَحَدًا“: صرف ایک انگلی سے اشارہ کرو (الترمذی: ۳۵۵۷ وقال: حسن، النسائی: ۱۲۷۳ وهو حدیث صحیح) اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شروع تشہد سے لے کر آخر تک شہادت والی انگلی اٹھائی رکھنی چاہیے۔

41 آپ ﷺ تشہد میں درج ذیل دعا (التحیات) سکھاتے تھے:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ ① أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ②

42 پھر آپ ﷺ درود پڑھنے کا حکم دیتے تھے: ③

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
حَيِّدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَيِّدٌ مَجِيدٌ

① یہاں علیک سے مراد حاضر نہیں بلکہ غائب ہے، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے تو ہم: ”السَّلَامُ يَغْنِي عَلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ“ پڑھتے تھے (البخاری: ۶۲۶۵) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ”علیک“ کی جگہ ”علی“ پڑھنا اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ ”علیک“ سے مراد یہاں قطعاً حاضر نہیں ہے۔ یاد رہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی روایتوں کو بعد والے لوگوں کی بہ نسبت زیادہ جانتے ہیں۔ ② البخاری: ۱۲۰۲ ☆ **تنبیہ:** اس مشہور ”التحیات“ کے علاوہ دوسرے جتنے صحیح و حسن احادیث سے یہاں پڑھنے ثابت ہیں (اس کے بدلے میں) اُن کا پڑھنا جائز اور موجب ثواب ہے۔ ③ البخاری: ۳۳۷۰، البيهقي في السنن الكبرى ۱/۲ ۱۴۸ ح ۲۸۵۶.

43) دو رکعتیں مکمل ہو گئیں، اب اگر دو رکعتوں والی نماز (مثلاً صلوٰۃ الفجر) ہے تو دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں اور اگر تین یا چار رکعتوں والی نماز ہے تو تکبیر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔^①

44) پھر جب آپ ﷺ دو رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو (اٹھتے وقت) تکبیر (اللہ اکبر) کہتے^② اور رفع یدین کرتے تھے۔^③

45) تیسری رکعت بھی دوسری رکعت کی طرح پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ تیسری اور چوتھی (آخری دونوں) رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اس کے ساتھ کوئی سورت وغیرہ نہیں ملانی چاہیے، جیسا کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث سے ثابت ہے۔^④

46) اگر تین رکعتوں والی نماز (مثلاً صلوٰۃ المغرب) ہے تو تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد (دوسری رکعت کی طرح تشهد اور درود پڑھ لیا جائے اور

① پہلے تشهد میں درود پڑھنا انتہائی بہتر اور موجب ثواب ہے، عام دلائل میں ”قولوا“ کے ساتھ اس کا حکم آیا ہے کہ درود پڑھو، اس حکم میں آخری تشهد یا پہلے تشهد کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ نیز دیکھئے سنن النسائی (ج ۴ ص ۲۴۱ ح ۱۷۲۱) والسنن الکبریٰ (۲/ ۴۹۹، ۵۰۰) وسندہ صحیح) تاہم اگر کوئی شخص پہلے تشهد میں درود نہ پڑھے اور صرف التحیات پڑھ کر ہی کھڑا ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے التحیات (عبدہ ورسولہ تک) سکھا کر فرمایا: ”پھر اگر نماز کے درمیان (اول تشهد) میں ہو تو کھڑا ہو جائے“ (مسند احمد: ۱/ ۴۵۹ ح ۴۳۸۲، وسندہ حسن) اگر دوسری رکعت پر سلام پھیرا جا رہا ہے تو تورک کرنا بہتر ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے دیکھئے فقرہ: ۳۳، حاشیہ: ۹۔ ② البخاری: ۷۸۹، ۸۰۳، مسلم: ۲۸/ ۳۹۲ ③ البخاری: ۷۳۹۔ **تنبیہ:** یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس پر بعض محدثین کی جرح مردود ہے، سنن ابی داؤد (۷۳۰) وسندہ صحیح) وغیرہ میں اس کے صحیح شواہد بھی ہیں۔ والحمد لله / نیز دیکھئے فقرہ: ۲۔ ④ اور اگر آخری دونوں رکعتوں میں سے ہر رکعت میں کوئی سورت پڑھ لی جائے تو جائز ہے۔ دیکھئے حاشیہ: ۶، نیز دیکھئے فقرہ: ۱۱، حاشیہ: ۵۔

دعا جس کا ذکر آگے آرہا ہے پڑھ کر دونوں طرف) سلام پھیر دیا جائے۔^① تیسری رکعت میں اگر سلام پھیرا جائے تو تورک کرنا چاہیے۔ دیکھئے فقرہ: ۴۸۔

④۷ اگر چار رکعتوں والی نماز ہے تو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر کھڑا ہو جائے۔^②

④۸ چوتھی رکعت بھی تیسری رکعت کی طرح پڑھے۔^③ آپ ﷺ چوتھی رکعت

میں تورک کرتے تھے (صحیح البخاری: ۸۲۸) تورک کا مطلب یہ ہے کہ ”نمازی کا دائیں کو لہے کو دائیں پیر پر اس طرح رکھنا کہ وہ کھڑا ہو، اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، نیز بائیں کو لہے کو زمین پر ٹیکنا اور بائیں پیر کو پھیلا کر دائیں طرف نکالنا۔“ (القاموس الوحید ص ۱۸۴) نیز دیکھئے فقرہ: ۴۹) نماز کی آخری رکعت کے تشهد میں تورک کرنا چاہئے۔^④

چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد التیمات اور درود پڑھے۔^⑤

④۹ پھر اس کے بعد جو دعا پسند ہو (عربی زبان میں) پڑھ لے^⑥ چند دعائیں

درج ذیل ہیں جنہیں رسول اللہ ﷺ پڑھتے یا پڑھنے کا حکم دیتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

① البخاری: ۱۰۹۲ ② دیکھئے فقرہ: ۳۳ ③ یعنی صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھے، تاہم تیسری اور چوتھی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت پڑھنا بھی جائز ہے، جیسا کہ صحیح مسلم (۴۵۲) کی

حدیث سے ثابت ہے۔ ④ دیکھئے سنن ابی داؤد (۳۰۷۰ سندہ صحیح) ⑤ دیکھئے فقرہ: ۴۱، فقرہ: ۴۲

⑥ البخاری: ۸۳۵ مسلم: ۴۰۲، اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب ”تشہد کے بعد جو دعا اختیار کر لی جائے اس کا باب اور

یہ (دعا) واجب نہیں ہے۔“

وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ^①

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ،
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ^②

* اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ^③

* اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ
وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ^④

① البخاری: ۱۳۷۷، مسلم: ۵۸۸/۱۳۱، رسول اللہ ﷺ اس دعا کا حکم دیتے تھے (مسلم: ۵۸۸/۱۳۰) لہذا یہ دعا تشہد میں ساری دعاؤں سے بہتر ہے، طاؤس (تابعی) سے مروی ہے کہ وہ اس دعا کے بغیر نماز کے اعادے کا حکم دیتے تھے (مسلم: ۵۹۰/۱۳۴)

② البخاری: ۸۳۲، مسلم: ۵۸۹ ③ مسلم: ۵۹۰ ④ البخاری: ۸۳۴

* اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا
 اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ
 اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْبُقْدِمُ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ①

50 ان کے علاوہ جو دعائیں ثابت ہیں ان کا پڑھنا جائز اور موجب ثواب ہے،
 مثلاً آپ ﷺ یہ دعا بکثرت پڑھتے تھے:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
 حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ②

دعا کے بعد رسول اللہ ﷺ دائیں اور بائیں طرف سلام پھیر دیتے
 تھے۔ ③

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ
 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ④

① مسلم: ۷۷۱، ② البخاری: ۴۵۲۲، ③ مسلم: ۵۸۱، ۵۸۲، ④ ابو داود: ۹۹۶، وهو حدیث صحیح، الترمذی: ۲۹۵ وقال: "حسن صحیح" النسائی: ۱۳۲۰، ابن ماجہ: ۹۱۴، ابن حبان، الاحسان: ۱۹۸۷. قنبيہ: ابواسحاق الہمدانی نے "حدیثی علقمة بن قیس والأوسود بن یزید وأبو الأوص" کہہ کر سماع کی تصریح کر دی ہے، دیکھئے السنن الکبریٰ للبیہقی: ۱۷۷/۲ ح ۲۹۷۴، لہذا اس روایت پر جرح صحیح نہیں ہے، ابواسحاق سے یہ روایت سفیان الثوری وغیرہ نے بیان کی ہے والحمد لله۔ اگر دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو بھی جائز ہے، دیکھئے سنن ابی داود (۹۹۷ و سنده صحیح)

51) اگر امام نماز پڑھا رہا ہو تو جب وہ سلام پھیر دے تو سلام پھیرنا چاہیے،
عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ۔ ”ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ نماز پڑھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی
سلام پھیرا۔“^①

دعائے قنوت

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ
عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا
أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا
يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَاَلَيْتَ [وَلَا
يَعْزُ مَنْ عَادَيْتَ] تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ^②

① البخاری: ۸۳۸، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پسند کرتے تھے کہ جب امام سلام پھیر لے تو (پھر) مقتدی
سلام پھیریں (البخاری قبل حدیث: ۸۳۸ تعلیقاً) لہذا بہتر یہی ہے کہ امام کے دونوں
طرف سلام پھیرنے کے بعد ہی مقتدی سلام پھیرے، اگر امام کے ساتھ ساتھ، پیچھے پیچھے بھی سلام پھیر
لیا جائے تو جائز ہے۔ دیکھئے فتح الباری (۲/۳۲۳ باب ۱۵۳، یسلم حین یسلم
الإمام) ② سنن ابی داود: ۱۴۲۵، ۱ سے ترمذی (۴۶۴) نے حسن، ابن خزیمہ (۲/۲۵۱-
۱۵۲ ح ۱۰۹۵، ۱۰۹۶) اور نووی نے صحیح کہا ہے۔

نماز کے بعد اذکار

1 عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ“ میں نبی ﷺ کی نماز کا اختتام تکبیر (اللہ اکبر) سے پہچان لیتا تھا۔^①

ایک روایت میں ہے: ”مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ“ ہمیں رسول اللہ ﷺ کی نماز کا ختم ہونا معلوم نہیں ہوتا تھا مگر تکبیر (اللہ اکبر سننے) کے ساتھ۔^②

2 رسول اللہ ﷺ نماز مکمل کرنے کے بعد تین دفعہ استغفار کرتے (أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ) اور فرماتے:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ،

تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»^③

3 آپ ﷺ درج ذیل دعائیں بھی پڑھتے تھے:

① البخاری: ۸۴۲، مسلم: ۵۸۳/۱۲۰ امام ابو داؤد (قبل حدیث: ۱۰۰۲) نے اس حدیث پر باب التکبیر بعد الصلاة کا باب باندھا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ (فرض) نماز کے بعد امام اور مقتدیوں کو اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا چاہیے، یہی حکم منفرد کے لئے بھی ہے ”أَنْ رَفَعَ الصَّوْتُ بِالذِّكْرِ“ میں الذکر سے مراد ”التکبیر“ ہی ہے، جیسا کہ حدیث بخاری وغیرہ سے ثابت ہے، اصول میں یہ مسلم ہے کہ ”الحدیث یفسر بعضہ بعضاً“ یعنی ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔

② مسلم: ۵۸۳/۱۲۱ ③ مسلم: ۵۹۱

* «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ
لَا مَانِعَ لَنَا مِنْكَ وَلَا مُعْطِيَ لَنَا مِنْكَ
وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»^①
* اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ

عِبَادَتِكَ^②

آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ہر نماز کے بعد تینتیس [۳۳] دفعہ تسبیح
(سبحان اللہ) تینتیس [۳۳] دفعہ تمجید (الحمد للہ) اور تینتیس [۳۳] دفعہ تکبیر
(اللہ اکبر) پڑھے اور آخری دفعہ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» پڑھے تو اس کے گناہ
معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ (گناہ) سمندر کے جھاگ کے برابر
(بہت زیادہ) ہوں۔“^③ تینتیس [۳۳] دفعہ سبحان اللہ، تینتیس [۳۳] دفعہ
الحمد للہ، اور چونتیس [۳۴] دفعہ اللہ اکبر کہنا بھی صحیح ہے۔^④ آپ ﷺ نے
عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد معوذات (وہ سورتیں جو قل اعوذ
سے شروع ہوتی ہیں) پڑھیں۔^⑤

① البخاری: ۸۴۴، مسلم: ۵۹۳. ② ابوداؤد: ۱۵۲۲ وسندہ صحیح،
النسائی: ۱۳۰۴ و صححہ ابن خزيمة: ۷۵۱ وابن حبان، الاحسان:
۲۰۱۷، ۲۰۱۸ والحاکم علی شرط الشيخین (۱/۲۷۳) ووافقه الذہبی
③ مسلم: ۵۹۷ ④ دیکھئے مسلم: ۵۹۶ ⑤ ابوداؤد: ۱۵۲۳ وسندہ حسن، <==

ان کے علاوہ جو دعائیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کا پڑھنا افضل ہے، چونکہ نماز اب مکمل ہو چکی ہے، لہذا اپنی زبان میں بھی دعا مانگی جاسکتی ہے۔^①

4 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے ہر فرض نماز کے آخر میں (سلام کے بعد) آیت الکرسی پڑھی، وہ شخص مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔“^②

==> النسائی: ۱۳۳۷ ولہ طریق آخر عند الترمذی: ۲۹۰۳ وقال: ”غریب“
 وطریق أبی داود: صححه ابن خزيمة: ۷۵۵ وابن حبان، الاحسان: ۲۰۰۱
 والحاکم (۲۵۳/۱) علی شرط مسلم ووافقہ الذہبی^① نماز کے بعد اجتماعی دعا کا
 کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما دعا کرتے تو آخر میں اپنی دونوں
 ہتھیلیاں اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے (البخاری فی الادب المفرد: ۶۰۹ وسندہ
 حسن) اس روایت (اثر) کے راویوں محمد بن فلیح اور فلیح بن سلیمان دونوں پر جرح مردود ہے، ان کی
 حدیث حسن کے درجے سے نہیں گرتی، نیز دیکھئے فقرہ: ۱۵، حاشیہ: ۵^② النسائی فی الکبریٰ:
 ۹۹۲۸ (عمل الیوم واللیلة: ۱۰۰ وسندہ حسن، وکتاب الصلوٰۃ لابن حبان
 (اتحاف المہرۃ لابن حجر: ۲۵۹/۶ ح ۶۴۸۰)

نماز جنازہ پڑھنے کا صحیح اور مدلل طریقہ

- 1 وضو کریں۔^①
- 2 ۲: شرائط نماز پوری کریں۔^②
- 3 قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں۔^③
- 4 ۴: تکبیر (اللہ اکبر) کہیں۔^④
- 5 تکبیر کے ساتھ رفع یدین کریں۔^⑤
- 6 اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں۔^⑥
- 7 دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر، سینے پر رکھیں۔^⑦
- 8 اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ پڑھیں۔^⑧

① حدیث: ((لا تقبل صلاة بغير طهور)) وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی / رواہ مسلم فی صحیحہ: (۱/۵۳۵) / ۲۲۴، نیز دیکھئے صحیح بخاری: ۶۲۵۱ ② دیکھئے حدیث: ((وصلوا کما رأیتمونی أصلي)) اور نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ رواہ البخاری فی صحیحہ: ۶۳۱ ③ موسوعة الإجماع فی الفقه الإسلامی (ج ۲ ص ۷۰۴) نیز دیکھئے صحیح البخاری (۶۲۵۱) ④ عبدالرزاق فی المصنف (۳/۴۹۰، ۴۸۹ ح ۶۴۲۸) وسندہ صحیح، وصححه ابن الجارود بروایتہ فی المنتقى (۵۴۰) زبان کے ساتھ نماز جنازہ کی نیت ثابت نہیں ہے۔ ⑤ عن نافع قال: کان (ابن عمر) یرفع یدیه فی کل تکبیرة علی الجنازة (ابن ابی شیبہ فی المصنف ۳/۲۹۶ ح ۱۳۸۰ وسندہ صحیح) ⑥ البخاری: ۷۴۰، والامام مالک فی الموطأ ۱/۱۵۹ ح ۳۷۷ ⑦ احمد فی مسندہ ۵/۲۲۶ ح ۲۲۳۱۳ وسندہ حسن، وعنه ابن الجوزی فی التحقیق ۱/۲۸۳ ح ۴۷۷ تنبیہ: یہ حدیث مطلق نماز کے بارے میں ہے جس میں جنازہ بھی شامل ہے کیونکہ جنازہ بھی نماز ہی ہے۔ ⑧ سنن ابی داود: ۷۷۵ وسندہ حسن۔

8 ﴿ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھیں۔^①﴾

9 ﴿ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔^②﴾

10 ﴿ آمین کہیں۔^③﴾

11 ﴿ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔^④﴾

12 ﴿ کوئی ایک سورت پڑھیں۔^⑤﴾

13 ﴿ پھر تکبیر کہیں اور رفع یدین کریں۔^⑥﴾

14 ﴿ نبی ﷺ پر درود پڑھیں۔^⑦ مثلاً:



① النسائی: ۹۰۶ وسندہ صحیح وصححه ابن خزيمة: ۴۹۹، وابن حبان الاحسان: ۱۷۹۷، والحاكم على شرط الشيخين ۱/ ۲۳۲ ووافقه الذهبي واخطأ من ضعفه. ② البخاری: ۱۳۳۵، وعبد الرزاق في المصنف ۳/ ۴۸۹، ۴۹۰ ح ۶۴۲۸ وابن الجارود: ۵۴۰☆ چونکہ سورۃ فاتحہ قرآن ہے، لہذا اسے قرآن (قرأت) سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جنازہ میں سورۃ فاتحہ قرأت (قرآن) سمجھ کر نہ پڑھی جائے بلکہ صرف دعا سمجھ کر پڑھی جائے ان کا قول باطل ہے۔ ③ النسائی: ۹۰۶ وسندہ صحیح، ابن حبان الاحسان: ۱۸۰۵، وسندہ صحیح ④ مسلم في صحيحه ۵۳/ ۴۰۰ وهو صحیح والشافعی في الام ۱/ ۱۰۸، وصححه الحاكم على شرط مسلم: ۲/ ۲۳۳، ووافقه الذهبي وسندہ حسن ⑤ النسائی ۴/ ۷۵، ۷۴ ح ۱۹۸۹، وسندہ صحیح ⑥ البخاری: ۱۳۳۴ ومسلم: ۹۵۲، ابن ابی شیبہ ۳/ ۲۹۶ ح ۱۱۳۸۰، وسندہ صحیح عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ مکحول، زہری، قیس بن ابی حازم، نافع بن جبیر اور حسن بصری وغیرہ سے جنازے میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ دیکھئے ماہنامہ الحدیث: ۳ (ص ۲۰) اور بیہی راجح اور جمہور کا مسلک ہے۔ نیز دیکھئے جنازہ کے مسائل فقہ: ۳ **تنبیہ:** نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا نبی کریم ﷺ سے بھی ثابت ہے۔ دیکھئے کتاب العلل للدارقطنی (۱۳/ ۲۲ ح ۲۹۰۸ وسندہ حسن) ⑦ عبد الرزاق في المصنف ۳/ ۴۹۰، ۴۸۹

ح ۶۴۲۸ وسندہ صحیح

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
 صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
 حَيُّدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
 آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
 إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَيُّدٌ مَجِيدٌ۔^①

15) تکبیر کہیں^② اور رفع یدین کریں۔^③

16) میت کے لئے خالص طور پر دعا کریں۔^④

چند مسنون دعائیں یہ ہیں:

* اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا
 وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ
 أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ
 مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ^⑤

① البخاری فی صحیحہ ۳۳۷۰، والبیہقی فی السنن الكبرى ۱۴۸/۲ ح ۲۸۵۶
 ② البخاری: ۱۳۳۴، و مسلم: ۹۵۲، ③ ابن ابی شیبہ ۲۹۶/۳ ح ۱۱۳۸۰،
 وسندہ صحیح ④ عبدالرزاق فی المصنف: ۶۴۲۸ وسندہ صحیح وابن حبان
 فی صحیحہ، الموارد: ۷۵۴ و ابوداؤد: ۳۱۹۹ وسندہ حسن
تنبیہ: اس سے مراد نماز جنازہ کے اندر دعا ہے۔ دیکھئے باب ماجاء فی الدعاء فی الصلوٰۃ
 علی الجنائزہ (ابن ماجہ: ۱۴۹۷) ⑤ الترمذی: ۱۰۲۴، وسندہ صحیح،

* اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ
 وَاکْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ
 وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ
 الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا
 خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا
 خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ
 عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ①

* اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بَنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ
 جَوَارِكَ، فَأَعِذْهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ
 وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ،
 إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ②

* اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ
 أَمَّتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ
 مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ،
 اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي حَسَنَاتِهِ وَإِنْ

① مسلم: ٩٦٣/٨٥ ② ابن المنذر في الاوسط ٤٤١/٥ ح ٣١٧٣ وسنده

كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اَللّٰهُمَّ
لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ①

* اَللّٰهُمَّ اَعِزَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ②

* اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا
وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا،
اَللّٰهُمَّ مَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنْهُمْ فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ
وَمَنْ اَبْقَيْتَهُ مِنْهُمْ فَاَبِقْهُ عَلَى الْاِسْلَامِ- ③

* اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِهَذِهِ النَّفْسِ الْحَنِيفِيَّةِ
الْمُسْلِمَةِ وَاَجْعَلْهَا مِنَ الدِّينِ تَابُوًا وَاتَّبَعُوًا
سَبِيْلِكَ وَقِهَا عَذَابَ الْجَحِيْمِ ④

① مالك في الموطأ ١/٢٢٨ ح ٥٣٦ واسناده صحيح عن أبي هريره رضي الله عنه،

موقوف ② مالك في الموطأ ١/٢٢٨ ح ٥٣٧ واسناده صحيح عن أبي

هريره رضي الله عنه، موقوف يدعنا سيدنا ابو هريره رضي الله عنه معصوم بچي کی ميت پر پڑھتے تھے۔ ③ ابن ابی شیبہ ٣/٢٩٣ ح ١١٣٦١، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، موقوف وسنده حسن

④ ابن ابی شیبہ ٣/٢٩٤ ح ١١٣٦٦ وسنده صحيح، وهو موقوف على

17) میت پر کوئی دعا موقت (خاص طور پر مقرر شدہ) نہیں ہے۔^① لہذا جو بھی

ثابت شدہ دعا کر لیں جائز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے قول اور تابعین کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ میت پر کئی دعائیں جمع کی جاسکتی ہیں۔

18) پھر تکبیر کہیں۔^②

19) پھر دائیں طرف ایک سلام پھیر دیں۔^③



① ابن ابی شیبہ ۳/۲۹۵ ح ۱۱۳۷۰، عن سعید بن المسیب والشعبی: ۱۱۳۷۱ عن محمد (بن سیرین) وغيرهم من آثار التابعين قالوا: ليس على الميت دعاء موقت (نحو المعنى) وهو صحيح عنهم^② البخاری: ۱۳۳۴، ومسلم: ۹۵۲^③ عبد الرزاق ۳/۴۸۹ ح ۶۴۲۸ وسنده صحيح، وهو مرفوع، ابن ابی شیبہ ۳/۳۰۷ ح ۱۱۴۹۱، عن ابن عمر من فعله وسنده صحيح **تنبیہ:** نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام پھیرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام الجنائز (ص ۱۲۷) میں بحوالہ بیہقی (۳/۴۳) نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام والی روایت لکھ کر اسے حسن قرار دیا ہے لیکن اس کی سند دو وجہ سے ضعیف ہے: ① حماد بن ابی سلیمان مختلف ہے اور یہ روایت قبل از اختلاط نہیں ہے۔ ② حماد مذکور مدلس ہیں دیکھئے طبقات المدلسین (۲/۳۵) اور روایت عن سے ہے۔ امام عبد اللہ بن المبارک فرماتے ہیں: جو شخص جنازے میں دو سلام پھیرتا ہے وہ جاہل ہے جاہل ہے۔ (مسائل ابی داؤد ص ۱۵۳ سندہ صحیح) ابراہیم نخعی سے ایک روایت میں نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام ثابت ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۳/۳۰۸) سندہ حسن لیکن بہتر یہی ہے کہ نماز جنازہ میں صرف ایک دائیں طرف سلام پھیرا جائے۔